



CONSTRUCTION
INDUSTRY COUNCIL
建造業議會

ٹائلر سکیڈڈ ٹریڈ ٹیسٹ موک پریکٹیکل ٹیسٹ پیپر

此文件關於鋪瓦工工藝測試考題。如有需要索取此文件的中文版本，請致電 2100 9000 與香港建造業工藝測試中心聯絡。

This document related to mock test paper of skilled trade test for Tiler. Should you require an English version of this document, please contact Hong Kong Construction Industry Trade Testing Centre at 2100 9000.

TTL (Urdu)

اظہار لا تعلقی

سی آئی سی کی لکھی ہوئی اجازت کے بغیر اس مواد کے کسی بھی حصے کو دوبارہ چھاپہ، تیار یا منتقل کسی بھی طرح سے یا کسی بھی مقصد کے لئے نہیں کیا جا سکتا۔ جبکہ اس مواد میں شامل معلومات کی درستگی کو یقینی بنانے کے لئے مناسب کوششیں کی گئی ہیں، اس کے باوجود سی آئی سی ہمیشہ قارئین کو جتنا ممکن ہو اپنے پیشہ ور مشیروں سے آزادانہ مشورہ طلب کرنے کی حوصلہ افزائی کرے گا اور قارئین کسی متعلقہ اقدامات کے لئے ایسے پیشہ ور مشورے کے لئے اس مواد کو بطور متبادل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر انحصار کریں۔

معلومات

اس مواد کے بارے میں انکوائری ہانگ کانگ کنسٹرکشن انڈسٹری ٹریڈ ٹیسٹنگ سینٹر میں کی جا سکتی ہے۔

95, Yue Kwong Road 95, یو کونگ روڈ

Aberdeen آبرڈین

Hong Kong ہانگ کانگ

ٹیلی فون: (852) 2100 9000

فیکس: (852) 2100 9090

ای میل: enquiry@cic.hk

ویب سائٹ: www.cic.hk

© 2020 تعمیراتی صنعتی کاؤنسل.

ٹریڈ ٹیسٹ پیپر

ٹریڈ : ٹائلر

درجہ : کاریگر

- سوال: نقشات کو مدنظر رکھتے ہوئے، مندرجہ ذیل کام کی مخصوص جگہ پر تکمیل کیجئے:
1. سیمنٹ کے استرکاری کے مسالے کو استعمال کرتے ہوئے 200 x 100 (30 نمبر) (ملی میٹر) کی چینی ٹائلوں کو دیوار اور لائٹھ پر لگائیں، بشمول بہ آسانی لے جانے کے قابل بجلی سے چلنے والا کاتنے کا آلہ جو ٹائلوں کو ڈھال زاویے میں کاٹے گا اور آپ اپنی طرف سے 4 ملی میٹر گھنی پلاسٹک کی شیٹ یا "اسٹار ہارن" (پلاسٹک کراس ٹائل جو فاصلہ کو ٹھیک کرنے کا پرزہ ہے) کا انتخاب کریں گے جو وسیع کریک ٹائل پختہ فرش بنانے کے عمل کی تکمیل کرے گا۔
 2. سیمنٹ کے استرکاری کے مسالے کو استعمال کرتے ہوئے دیوار کے اوپر (30 نمبر) والے حصے پر شیشے کی پچی کاری کریں۔ کام میں مسالے کو سفید سیمنٹ کے مسالے سے ملاپ کرانا شامل ہے؛
 3. ٹائل کو جوڑنے والا مادہ کی مدد سے 300 x 300 (ملی میٹر) یا کسی اور (20 نمبر) مخصوص ناپ والی ریت اور مٹی کی گاری ٹائل کو دیوار کے نچلے حصے پر پختہ کریں۔ کام میں روشنی لانے والا سوراخ اور سفید سیمنٹ کے مسالے سے ملاپ کرنا شامل ہے؛ اور
 4. سیڑھی کے قدمچے کے گول کنارے کی فرش بندی اور 300 x 300 (ملی میٹر) یا کسی اور مخصوص ناپ کی فرشی ٹائلوں کی پٹی پر فرش بندی کیجئے۔ کام میں ایک گول زمینی نالی کی کٹائی شامل ہے۔


6 گھنٹے (دوپہر کے کھانے کے وقت کو چھوڑ کر)

دورانیہ :

- (1) امیدوار پر لازم ہے کہ امتحان کو شروع کرنے سے پہلے مسنک شدہ صفحے پر موجود " خاص نکتوں پر دھیان کرنا" کو پڑھیں۔
- (2) اگر امیدوار امتحان کے دوران حفاظتی تدابیر کو مکمل نہیں کرتا، تو وہ امتحان میں ناکام تصور کیا جائے گا۔
- (3) اس سوالنامہ میں 3 صفحے موجود ہیں۔ تمام امتحانی اشیاء کے کل نمبر 100 ہیں اور 60 نمبر یا اس سے زیادہ لینے والے کو کامیاب قرار دیا جائے گا۔

نوٹس :


ڈرائنگ شاہ ٹیسٹ ٹریڈ ٹائلز




3-D پلان

A	100x200 چھوٹی ٹائل
B	300x300 لارج ٹائل اینڈ موزیک
C	300x300 ٹائل فلور ٹائل ساتھ

پیمائش کرنے کے لیے نہیں
تمام طول و عرض ملی میٹر میں ہے



فرنٹ ایلویشن



پوریزنٹل پلان

نوٹس برائے امیدوار:

1. امیدواروں کو امتحانی پرچے بغور پڑھنے چاہئیں اور کسی سوال کی صورت میں ممتحن سے رابطہ کرنا چاہیے۔
2. امیدواروں کو امتحان شروع ہونے سے قبل امتحانی پرچے سے منسلکہ خاکوں اور تخصیصات، اگر کوئی ہوں، کا مطالعہ کرنا چاہیے۔
3. امیدواروں کو فراہم کردہ امتحانی پرچوں، عملی خاکوں اور تخصیصات کے مطابق امتحان دینا چاہیے۔
4. امیدواروں کو اپنے ذاتی حفاظتی جوتے لانے ہوں گے، دیگر حفاظتی سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے۔ امیدواروں کو با حفاظت کام کی انجام دہی کے لیے تمام ضروری حفاظتی تدابیر لازماً اختیار کرنا ہوں گی۔
5. امتحان کے لیے درکار تمام آلات اور سازوسامان پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کی جانب سے فراہم کیے جائیں گے، امیدواروں کو ان کی موزونیت اور معیار کی جانچ کر لینی چاہیے۔ امیدواروں کو آلات اور سازوسامان مجوزہ پیشہ ورانہ طریقہ کار کے مطابق درست طور پر استعمال کرنا ہوں گے۔ امتحان کے بعد تمام آلات کو لازماً پیشہ ورانہ مہارت کے امتحانی مرکز کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کی صورت میں امیدوار ممتحن سے پوچھ سکتے ہیں۔
6. امیدواروں کو امتحان میں استعمال کرنے اور متعلقہ افعال انجام دینے کے لیے آلات اور سازوسامان کو برتنا اور اٹھا کر لانا لے جانا ہوگا۔
7. ممتحن، امتحان کے دوران وقفے وقفے سے بطور ریکارڈ تصاویر لے گا۔
8. امیدواروں کو کیمرے یا موبائل فون کے ساتھ کوئی تصویر یا ویڈیو لینے کی اجازت نہیں ہے۔
9. ہنگامی صورتحال کے علاوہ، امتحان کے دوران امیدواروں کو اپنے موبائل فون کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔
10. اسکور دیے جانے کا عمل درج ذیل معیارات پر مبنی ہوگا:

- (a) خاکے اور تخصیص کو سمجھنا
- (b) امتحان شروع کرنے سے قبل کاموں کی تیاری
- (c) کام کی انجام دہی کے طریق کار
- (d) کاموں کی درستگی اور معیار
- (e) کاموں میں پیش رفت
- (f) سازوسامان کو درست انداز میں برتنا اور استعمال کرنا
- (g) آلات اور سازوسامان کا درست استعمال
- (h) حفاظتی تدابیر
- (i) دیگر پیشہ ورانہ مہارتوں کو پیش نظر رکھنا
- (j) امتحان مکمل ہونے کے بعد جگہ کی صفائی

11. مقررہ وقت ختم ہونے پر تمام امیدواروں کو لازماً کام روک دینا ہوگا۔

12. امتحان کے بعد امیدواروں کو امتحانی پرچہ ممتحن کے حوالے کرنا ہوگا۔

13. ممتحن کو رشوت کی پیشکش کرنا قانونی جرم ہے اور ایسی صورت میں پیشہ ورانہ مہارت کا امتحانی مرکز ICAC کو مطلع کرے گا۔

اگر امیدوار حفاظتی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہا اور / یا خطرناک صورتحال میں کام کیا، تو اسے فیل قرار دے دیا جائے گا۔